

22 دسمبر، 2023

محترم والد یا والدہ / سرپرست:

ہم اپنے بچے (بچوں) کی تعلیم میں آپکی سرمایہ کاری کو سراہتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ وفاقی طور پر مطلوبہ تشخیصی جائزوں، خاص طور پر ACCESS برائے ELLs کے بارے میں کچھ معلومات کا اشتراک کرنا چاہتے ہیں۔ وفاقی قانون الینوائے کے ریاستی بورڈ آف ایجوکیشن سے تقاضا کرتا ہے کہ ریاست میں چارٹر اسکولوں سمیت سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم ان تمام طلباء کا تشخیصی جائزہ لے جن کی شناخت انگریزی سیکھنے والوں (ELs) کے طور پر کی گئی ہے۔

ACCESS ٹیسٹ ریاست الینوائے کے تمام K-12 ELs کے لئے سالانہ تشخیصی جائزہ ہے۔ انگریزی میں طلباء کی پیشرفت اور مہارت کا اندازہ لگانے کے ساتھ ساتھ اگلے تعلیمی سال میں EL پروگرام میں تعیناتی کا تعین کرنے میں مدد کے لئے ACCESS کے اسکور کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ، اس ٹیسٹ کے نتائج کو آپ کے ہائی اسکول کے طالب علم (طلباء) کے لئے دو لسانی کی مہر کے لئے انگریزی کی مہارت کے تقاضے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی قانون کے تحت تقاضا کیا جاتا ہے کہ آپ کے کثیر لسانی بچے (بچے) 17 جنوری سے 5 مارچ 2024 تک ٹیسٹنگ ونڈو کے دوران ACCESS برائے ELLs کا تشخیصی جائزہ لے (لیں)۔

ہم نے ڈسٹرکٹس کو ہدایت دی ہے کہ وہ الینوائے WIDA ویب پیج، خاص طور پر ACCESS آن لائن یا پیپر ایڈمنسٹریشن کی چیک لسٹس، اور "ACCESS برائے ELLs ڈسٹرکٹ اور اسکول ٹیسٹ کوآرڈینیٹر مینوئل" سے رجوع کریں، جو اس بات کو یقینی بنانے کے لئے معلومات فراہم کرتا ہے کہ امتحان لیا جانا سب کے لئے مساوی، قابل رسائی اور محفوظ ہو۔

آپ کے بچے (بچوں) کا اسکول یا ڈسٹرکٹ آنے والے ہفتوں میں آپ کو ٹیسٹ لینے کے بارے میں اپنے منصوبے اور ضابطے سے آگاہ کرے گا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ تمام طلباء تشخیصی جائزے میں اپنی بھرپور کوشش کریں، تاکہ آپ کا ڈسٹرکٹ 2024-25 تعلیمی سال میں ان کی مناسب اور مؤثر طریقے سے خدمت کر سکے۔

ہم اپنے کثیر لسانی بچے (بچوں) کے لئے بہترین مواقع فراہم کرنے میں آپ کے تعاون اور مدد کے لئے مشکور ہیں!

آپ کا/کی خیر خواہ،

انجیلا فاکسال Angela Foxall، تشخیصی جائزے کی ڈائریکٹر
جوآن کلانڈ Joanne Clyde، کثیر لسانی ڈائریکٹر